



# الْمُؤْمِنُونَ

## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے

بیشک فلاح پاگئے ایمان والے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾

وہ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾

اور وہ جو لغو باتوں سے منہ پھیرنے والے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾

مگر اپنی بیویوں سے یا جو انکی ملک ہوتی ہیں تو

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ

بیشک وہ نہیں قابل ملامت۔

أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾

پس جو چاہے اس کے سوا تو یہ لوگ ہیں جو حد

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ

سے نکل جانے والے ہیں۔

هُمُ الْعَادُونَ ﴿٧﴾

اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے اقراروں کا پاس رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٩﴾

یہ لوگ ہی ہیں وارث ہونے والے۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿١٠﴾

جو بنیں گے وارث جنت الفردوس کے۔ وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١١﴾

اور بیشک پیدا کیا ہے ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ﴿١٢﴾

پھر بنا کر رکھا اسکو ایک نطفہ محفوظ جگہ (رحم مادر) میں۔

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿١٣﴾

پھر بنایا ہم نے نطفے کو خون کا لوتھڑا۔ پھر بنا دیا ہم نے لوتھڑے کو بوٹی۔ پھر بنائیں ہم نے بوٹی سے ہڈیاں۔ پھر چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت۔ پھر بنا کھڑا کیا ہم نے اسکو دوسری ہی مخلوق۔ سو بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ

بہتر بنا نیوالا ہے۔

أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ط

پھر یقیناً اس کے بعد ضرور تم مر جاتے ہو۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ط

پھر یقیناً تم قیامت کے روز اٹھائے جاؤ گے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ط

اور بیشک ہم نے پیدا کئے تمہارے اوپر کی جانب سات آسمان۔ اور نہیں ہیں ہم خلقت سے غافل۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ ق  
وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ط

اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ۔ پھر اسکو ٹھہرا دیا زمین میں۔ اور یقیناً ہم اسکو واپس لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں۔

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ق  
فَأَسْكَنَهُ فِي الْأَرْضِ ق وَ إِنَّا عَلَى  
ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ ط

پھر پیدا کئے ہم نے تمہارے لئے اس سے باغات کھجوروں کے اور انگوروں کے۔ تمہارے لئے ہیں ان میں پھل کثرت سے اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔

فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ ق  
وَ أَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ ق  
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ط

اور وہ درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے۔ اکتا بے تیل لئے ہوتے اور سالن کھانے والوں کے لئے۔

وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ ق  
تَنْبُتُ بِالذُّهْنِ وَ صِبْغٍ لِلْأَكْلِينَ ط

وَ إِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۗ  
نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا  
مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾

اور یقیناً تمہارے لئے مویشیوں میں عبرت  
ہے۔ پلاتے ہیں ہم تمکو جو ہے انکے پیٹوں  
میں اور تمہارے لئے ان میں فائدے ہیں کثیر  
اور ان میں (بعض کو) تم کھاتے ہو۔

وَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾

اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری کرتے ہو۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ  
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ  
غَيْرُهُ ۗ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾

اور یقیناً بھیجا تھا ہم نے نوح کو اسکی قوم کی  
طرف تو اس نے کہا اے میری قوم عبادت  
کرو اللہ کی۔ نہیں ہے تمہارے لئے کوئی  
معبود اسکے سوا۔ تو کیا نہیں تم ڈرتے۔

فَقَالَ الْمَلَكُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ  
يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ۗ مَا سَمِعْنَا  
بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾

تو کہنے لگے سردار وہ جنہوں نے کفر کیا تھا اسکی  
قوم میں سے کہ نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تم  
ہی جیسا۔ چاہتا ہے کہ بڑائی حاصل کر لے تم پر  
۔ اور اگر چاہتا اللہ تو اتار دیتا فرشتے۔ نہیں سنی  
ہم نے یہ بات اپنے اگلے باپ دادا میں۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَاْتَرَبَّصُوا  
بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٢٥﴾

نہیں یہ کہ مگر اس شخص کو ہے دیوانگی تو انتظار  
کرو اسکے بارے میں کچھ مدت۔



قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٢٦﴾

اس نے کہا میرے رب میری مدد کر اس پر جو انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَ وَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرَقُونَ ﴿٢٧﴾

پس ہم نے وحی بھیجی اسکی طرف کہ بنا ایک کشتی ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے۔ پھر جب آپہنچے ہمارا حکم اور اہل پڑے تنور۔ تو بٹھالے اس میں ہر قسم (کے حیوانات) میں سے جوڑا دو کا اور اپنے گھر والوں کو سوائے وہ جن پر پہلے ہی صادر ہو چکا ہے حکم انہیں سے۔ اور نہ کچھ کہنا مجھ سے انکے بارے میں جہنوں نے ظلم کیا۔ وہ ضرور ڈوب دیئے جائیں گے۔

پس جب تم سوار ہو جاؤ۔ تم اور جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کیلئے ہے جس نے نجات بخشی ہلکو ظالم لوگوں سے۔

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٢٨﴾

اور دعا کرنا کہ میرے رب اتار مجھ کو مبارک جگہ اور تو ہے سب سے بہتر اتارنے والا۔

وَقُلِ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿٢٩﴾

بیشک اس میں نشانیاں ہیں اور یقیناً ہم میں  
آزمائش کرنے والے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَ إِن كُنَّا  
لَمُبْتَلِينَ ﴿٢٠﴾

پھر پیدا کئے ہم نے ان کے بعد گروہ  
دوسرے دور کے۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا  
آخَرِينَ ﴿٢١﴾

پھر بھیجا ہم نے ان میں رسول انہی میں سے  
کہ عبادت کرو اللہ کی۔ نہیں ہے تمہارے  
لئے کوئی معبود اسکے سوا۔ تو کیا نہیں تم ڈرتے  
-

فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ  
اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ  
غَيْرِهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٢﴾

اور کہنے لگے سردار اسکی قوم میں سے وہ جنہوں  
نے کفر کیا اور جھٹلایا آخرت کی حاضری کو اور جنگو  
ہم نے آسودگی دے رکھی تھی دنیا کی زندگی  
میں۔ کہ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی تم ہی  
جیسا۔ یہ کھاتا ہے وہ جو تم کھاتے ہو اسی طرح  
کا اور یہ پیتا ہے وہ جو تم پیتے ہو۔

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
وَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَ أَتْرَفْنَاهُمْ  
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ  
مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ  
وَ يَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿٢٣﴾

اور اگر اطاعت کی تم نے ایک آدمی کی اپنے  
ہی جیسے یقیناً تب تو تم گھائے میں پڑ گئے۔

وَلَيْنِ اطْعَمْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ  
إِذَا لَخَسِرُونَ ﴿٢٤﴾

کیا یہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ تم جب مر جاؤ گے اور ہو جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تو یقیناً تم نکالے جاؤ گے۔

أَيُّدُكُمْ أَنْكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ  
تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْكُمْ تُخْرَجُونَ ﴿٢٥﴾

بہت بعید ہے بہت بعید ہے وہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ﴿٢٦﴾

نہیں یہی ہے مگر ہماری زندگی تو دنیا کی کہ ہم مرتے ہیں اور ہم جلتے ہیں اور نہیں ہم پھر اٹھانے جائیں گے۔

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ  
وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿٢٧﴾

نہیں یہ مگر ایک آدمی افترا کیا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ اور نہیں ہم اسکو ماننے والے۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿٢٨﴾

کہا اس نے میرے رب مدد کر میری وہی جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونَ ﴿٢٩﴾

فرمایا بہت قریب ہے یہ ہو جائیں گے پشیمان۔

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴿٣٠﴾

تو آپکرا انکو زور کی چنگھاڑنے وعدہ حق کے مطابق تو کر ڈالا ہم نے انکو خس و خاشاک۔ پس دوری ہے ان لوگوں کے لئے جو ظالم ہیں۔

فَأَخَذْتَهُمُ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ  
عُنَاءً فَبَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٤١﴾

پھر پیدا کئے ہم نے ان کے بعد گروہ دوسرے دور کے۔

ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا  
آخَرِينَ ﴿٤٢﴾

نہ آگے جاسکتی ہے کوئی جماعت اپنے وقت  
مقرر سے اور نہ ہی وہ تاخیر کر سکتے ہیں۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا  
يَسْتَأْخِرُونَ ﴿٤٣﴾

پھر بھیجتے رہے ہم اپنے رسول لگاتار۔ جب بھی  
آتا تھا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو وہ  
اسے جھٹلا دیتے تھے۔ تو پیچھے لاتے رہے ہم  
ان میں سے ایک کو دوسرے کے اور بنا دیا  
ہم ان کو داستانیں۔ پس دوری ہے ان لوگوں  
کے لئے جو ایمان نہیں لاتے۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا  
جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا  
بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ آخِذِينَ  
فَبَعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٤٤﴾

پھر بھیجا ہم نے موسیٰ اور اسکے بھائی ہارون کو  
ساتھ اپنی نشانیوں کے اور واضح دلیل کے۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ  
بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٤٥﴾

فرعون اور اسکے درباریوں کی طرف۔ تو انہوں  
نے تکبر کیا اور وہ تھے سرکش لوگ۔

إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ مَلَائِيهِ فَاسْتَكْبَرُوا  
وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٤٦﴾

تو انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لے آئیں دو  
آدمیوں پر اپنے جیسے جبکہ انکی قوم کے لوگ  
ہمارے خدمتگار ہیں۔

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا  
وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ﴿٤٧﴾

تو ان لوگوں نے انکی تکذیب کی سو وہ ہو گئے

فَكَذَّبُوهُمَا مِنْ



المُهَلِكِينَ ﴿٤٨﴾

ہلاک ہونیوالوں میں۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ

اور یقیناً ہم نے دی تھی موسیٰ کو کتاب تاکہ وہ

يَهْتَدُونَ ﴿٤٩﴾

ہدایت پائیں۔

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَ أُمَّةَ آيَةً

اور بنایا ہم نے مریم کے بیٹے اور اسکی ماں کو

وَآوَيْنَهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ

ایک نشانی اور پناہ دی دونوں کو ایک اونچی

وَمَعِينٍ ﴿٥٠﴾

جگہ رہنے کے لائق اور صاف جاری پانی پر۔

يَأْتِيهَا الرُّسُلُ كُلُّوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ

اے رسولوں کھاؤ وپاکیزہ چیزوں میں سے اور کرو

وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ

نیک عمل۔ یقیناً میں جو تم کرتے ہو اس سے

عَلِيمٌ ﴿٥١﴾

واقف ہوں۔

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

اور درحقیقت یہ تمہاری جماعت ایک جماعت

وَإَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٢﴾

ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ

پھر متفرق کر دیا انہوں نے اپنے کام کو آپس

حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٥٣﴾

میں ٹکڑے ٹکڑے۔ ہر فرقہ اسپر جو ان کے پاس

ہے وہ خوش ہیں۔

فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿٥٤﴾

تو رہنے دو انکو انکی غفلت میں ایک مدت تک۔

کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو مدد دیتے ہیں ہم  
انکو مال سے اور بیٹوں سے۔

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا  
لَا يُمَدُّهُمْ بِهِ مِنْ  
مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٥٥﴾

تو جلدی کر رہے ہیں ہم انکے لئے بھلائی  
میں۔ نہیں بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔

نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا  
يَشْعُرُونَ ﴿٥٦﴾

یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے  
ڈرتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا  
مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ  
مُشْفِقُونَ ﴿٥٧﴾

اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٨﴾

اور وہ جو اپنے رب کیساتھ شرک نہیں کرتے۔

وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں جبکہ انکے  
دل ڈرتے رہتے ہیں کہ انکو اپنے رب کی  
طرف لوٹ کر جانا ہے۔

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ  
لَا  
وَجَلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

یہی لوگ جلدی کرتے ہیں نیکیوں میں اور یہی  
انکے لئے آگے نکل جاتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ  
لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

اور نہیں ہم ذمہ دار بناتے کسی جان کو مگر اسکی  
طاقت کے مطابق اور ہمارے پاس کتاب ہے

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَ لَدَيْنَا  
كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا

يُظْلَمُونَ ﴿٢٢﴾

جو کہتی ہے سچ اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا  
وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ  
لَهَا عَمِلُونَ ﴿٢٣﴾

نہیں بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں اس  
(بات) سے اور انکے پاس اعمال میں اسکے  
علاوہ وہ جو یہ کرتے رہتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ  
إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ﴿٢٤﴾

یہاں تک کہ جب ہم نے پکڑ لیا ان میں سے  
خوش حال لوگوں کو عذاب میں تو وہ فریاد کرنے  
لگے۔

لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا  
تُنصَرُونَ ﴿٢٥﴾

مت فریاد کرو آج۔ یقیناً تمہیں ہماری طرف  
سے مدد نہیں دی جائیگی۔

قَدْ كَانَتْ آيَتِي تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ  
عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ ﴿٢٦﴾

بیشک میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تمکو  
تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے۔

مُسْتَكْبِرِينَ ۖ بِهِ سِمِرًا تَهْجُرُونَ ﴿٢٧﴾

سرکشی کرتے ہوئے ان سے۔ قصہ گوئی  
کرتے ہوئے بیہودہ بکواس کرتے ہوئے۔

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَّا  
لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿٢٨﴾

تو کیا نہیں غور کیا انہوں نے اس کلام میں یا  
آئی ہے انکے پاس وہ جو نہیں آئی تھی انکے  
اگلے باپ دادوں کے پاس۔

یا نہیں پہچانتے یہ اپنے رسول کو تو یہ اس کے منکر ہیں۔

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ  
مُنْكَرُونَ ﴿٦١﴾

یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے۔ نہیں بلکہ وہ آیا ہے انکے پاس حق کے ساتھ اور ان میں سے اکثر حق کو ناپسند کرتے ہیں۔

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمُ  
بِالْحَقِّ وَآكَثَرَهُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ ﴿٦٢﴾

اور اگر اتباع کرنے لگے حق انکی خواہشوں کی تو فساد پھیل جائے آسمانوں اور زمین میں اور جو کچھ ان میں ہے۔ بلکہ پہنچا دی ہے ہم نے انکے پاس انکے لئے نصیحت۔ تو یہ اپنی نصیحت سے منہ پھیر رہے ہیں۔

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ  
السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ  
بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ  
ذِكْرِهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٦٣﴾

کیا مانگتے ہو تم ان سے کچھ معاوضہ۔ تو صلہ تمہارے رب کی طرف سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَارَجُ  
رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ  
الرِّزْقِينَ ﴿٦٤﴾

اور یقیناً تم بلا تے ہو انکو سیدھے راستے کی طرف۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ  
مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٥﴾

اور یقیناً جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ

وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ



عَنِ الصِّرَاطِ لَنَكْبُونَ ﴿٧٤﴾

سیدھے راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ  
مِّنْ ضُرٍّ لَّلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ  
يَعْمَهُونَ ﴿٧٥﴾

اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور دور کر دیں جو انکو  
کوئی تکلیف ہے تو یہ اڑے رہیں اپنی سرکشی  
پر بھٹکتے پھریں۔

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا  
اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَ مَا  
يَتَضَرَّعُونَ ﴿٧٦﴾

اور یقیناً پکڑا ہم نے انکو عذاب میں تو نہ کی  
انہوں نے عاجزی اپنے رب کے آگے اور نہ  
ہی وہ گڑگڑاتے ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ  
شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿٧٧﴾

یہاں تک کہ جب کھول دیا ہم نے ان پر  
دروازہ شدید عذاب کا تو اس وقت وہ وہاں  
نامید ہو گئے۔

وَ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ  
وَالْأَبْصَارَ وَ الْآفِدَةَ قَلِيلًا مَّا  
تَشْكُرُونَ ﴿٧٨﴾

اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لئے  
کان اور آنکھیں اور دل۔ بہت کم ہی ہے جو  
شکر تم ادا کرتے ہو۔

وَ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ  
وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٧٩﴾

اور وہی ہے جس نے پھیلا دیا تمکو زمین میں اور  
اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔

اور وہی ہے جو زندگی بخشنا اور موت دیتا ہے اور  
اسی کا تصرف ہے بدلتے رہنا رات اور دن  
کا۔ تو کیا نہیں تم سمجھتے۔

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ  
الَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٨٠﴾

بلکہ یہ کہتے ہیں ویسا ہی جو کما اگلوں نے۔

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿٨١﴾

کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو  
جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا ہم پھر اٹھانے  
جائیں گے۔

قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا  
ءَأَنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٨٢﴾

بیشک ہم سے وعدہ کیا گیا۔ ہم سے اور ہمارے  
باپ داداؤں سے یہی اس سے پہلے بھی۔  
نہیں ہیں یہ مگر کمانیاں اگلے لوگوں کی۔

لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ  
قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ  
الْأَوَّلِينَ ﴿٨٣﴾

کو کس کی ہے زمین اور جو کچھ ہے اس میں اگر  
تم جانتے ہو۔

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهَا إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٤﴾

فوراً کہیں گے اللہ کا۔ کو تو کیا نہیں تم سوچتے۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٨٥﴾

کہو کہ کون مالک ہے سات آسمانوں کا اور  
مالک ہے عرش عظیم کا۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ  
وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٨٦﴾

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٨٧﴾

فورا کہیں گے اللہ۔ کو تو کیا نہیں تم ڈرتے۔

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ  
وَّهُوَ يُجِيرُ وَ لَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ  
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

کہو کہ کون ہے جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی  
ہر چیز کی اور وہی پناہ دیتا ہے اور نہیں پناہ  
دے سکتا کوئی اسکے مقابل اگر تم جانتے ہو۔

سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنِّي تُسْحَرُونَ ﴿٨٩﴾

فورا کہیں گے اللہ۔ کو تو کہاں سے تم پر جادو  
پڑ جاتا ہے۔

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَ أَهْمُهُمْ  
لَكَذِبُونَ ﴿٩٠﴾

بلکہ پہنچا دیا ہے ہم نے انکے پاس حق اور یہ  
بیشک جھوٹے ہیں۔

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَ مَا كَانَ مَعَهُ  
مِنْ إِلَهٍ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ  
وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ  
اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿٩١﴾

نہیں اختیار کیا ہے اللہ نے کسی کو بیٹا اور نہ  
ہے اسکے ساتھ کوئی معبود۔ ایسا ہوتا تو لے کر  
چل دیتا ہر معبود اسکو جو اسنے پیدا کیا۔ اور چڑھ  
دوڑتا ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ اس  
سے جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں۔

عِلْمِ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عَمَّا  
يُشْرِكُونَ ﴿٩٢﴾

وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا سو وہ بلند  
ہے اس سے جسکو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

کہو میرے رب اگر تو مجھے دکھائے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ<sup>لا</sup>  
﴿١٣﴾

میرے رب تو نہ شامل کر مجھے ظالم لوگوں میں۔

رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ  
الظَّالِمِينَ ﴿١٤﴾

اور یقیناً ہم اسپر کہ دکھائیں تمکو وہ جسکا وعدہ ہم ان سے کر رہے ہیں پوری طرح قادر ہیں۔

وَ إِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ  
لَقَدِيرُونَ ﴿١٥﴾

دفع کرو اس سے جو بہتر ہو کسی بری بات کو۔ ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ بناتے ہیں۔

إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ<sup>ط</sup>  
نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿١٦﴾

اور کہو میرے رب پناہ مانگتا ہوں میں تیری شیطانوں کے وسوسوں سے۔

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ  
الشَّيَاطِينِ ﴿١٧﴾

اور پناہ مانگتا ہوں میں تیری میرے رب کہ وہ میرے پاس آ موجود ہوں۔

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿١٨﴾

یہاں تک کہ جب آجائے گی ان میں سے کسی کے پاس موت تو کہے گا میرے رب مجھے واپس لوٹا دے۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ  
رَبِّ ارْجِعُونِ<sup>لا</sup>  
﴿١٩﴾



شاید کہ میں عمل کروں نیک اس میں جسے چھوڑ  
 آیا ہوں۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو بس ایک بات ہے  
 وہ اسے کہہ رہا ہے۔ اور انکے پیچھے برزخ ہے  
 اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فَيِمَّا تَرَكَتُ كَلَّا  
 اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَآئِهِمْ  
 بَرَزَخٌ اِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٠١﴾

پھر جب صور پھونکا جائے گا تو نہ رہیں گی  
 قرابتیں ان میں اس دن اور نہ ایک دوسرے  
 کو پوچھیں گے۔

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ  
 بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿١٠١﴾

تو وہ بھاری ہوئیں جنگی تولیں تو وہ لوگ ہی ہیں  
 جو فلاح پانے والے ہیں۔

فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٢﴾

اور وہ ہلکی ہوئیں جنگی تولیں تو وہ لوگ ہیں جنہوں  
 نے خسارے میں ڈالا اپنی جانوں کو۔ دوزخ میں  
 وہ رہیں گے۔

وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰٓئِكَ  
 الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِيْ  
 جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ﴿١٠٣﴾

جھلس دے گی انکے چہروں کو آگ اور وہ اس  
 میں بد شکل ہو رہے ہوں گے۔

تَلْفَحُ وُجُوْهُهُمْ النَّارُ وَ هُمْ فِيْهَا  
 كٰلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

کیا نہیں تھا یہ کہ میری آیتیں پڑھی جاتی تھیں  
 تمہارے سامنے پھر تم انکو جھٹلاتے تھے۔

اَلَمْ تَكُنْ اٰتِيْتَنِيْ تَتْلُوْا عَلَيْكُمْ  
 فَكُنْتُمْ بِهَا تُكٰذِبُوْنَ ﴿١٠٥﴾

وہ کہیں گے ہمارے رب غالب آگے ہم پر  
ہماری کم بختی اور ہو گئے ہم وہ لوگ جو راستے  
سے بھٹک جاتے ہیں۔

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا  
وَ كُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٦﴾

ہمارے رب نکال دے ہمکو اسمیں سے پس اگر  
ہم پھر ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٧﴾

فرمائے گا کہ ذلت کے ساتھ پڑے رہو اسی  
میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

قَالَ احْسَبُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴿١٨﴾

یقیناً تھا ایک گروہ میرے بندوں میں جو کہتے  
تھے ہمارے رب ہم ایمان لانے تو بخش دے  
ہم کو اور رحم فرما ہم پر اور تو سب سے بہتر رحم  
کرنے والا ہے۔

إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ  
رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا  
وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٩﴾

تو تم ان سے کرتے رہے تمسخر یہاں تک کہ  
بھول گئے تم میری یاد اور تم ان سے ہنسی کیا  
کرتے تھے۔

فَاتَّخَذُوا مِنْهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّى  
أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَ كُنْتُمْ مِّنْهُمْ  
تَضَحَكُونَ ﴿٢٠﴾

بیشک میں نے بدلہ دیا انکو آج اس کا جو صبر  
انہیں نے کیا۔ یقیناً وہی کامیاب ہو گئے۔

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا  
أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿٢١﴾

ارشاد ہو گا کہ کتنی مدت رہے تم زمین میں سالوں کے حساب سے۔

قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿١١٣﴾

وہ کہیں گے کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو پوچھ لے شمار کرنے والوں سے۔

قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِّينَ ﴿١١٣﴾

ارشاد ہو گا کہ نہیں تم رہے مگر بہت ہی کم۔ کاش کہ تم جانتے ہوتے۔

قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١٤﴾

کیا تم سمجھتے ہو کہ بس ہم نے پیدا کیا ہے تمکو بے مقصد اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹو گے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾

تو بالا و برتر ہے اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے۔ نہیں کوئی معبود سوا اسکے۔ رب ہے عرش کریم کا۔

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾

اور جو کوئی پکارتا ہے اللہ کے ساتھ معبود دوسرا۔ نہیں ہے کچھ سدا سکے پاس جسکی۔ تو یقیناً اس کا حساب اسکے رب کے ہاں ہو گا۔ بیشک نہیں کامیاب ہوں گے کافر۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾

اور کہو میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ

سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔

خَيْرُ الرَّحِمِينَ

